

12713 - کیا عیسائیوں کے اعتقاد تثلیث کا اسلام میں وجود ہے ؟

سوال

عیسائیوں کے ہاں کلمہ ، تثلیث ، استعمال ہوتا ہے اس لئے کہ یہ انکے دین کا اساسی رکن ہے ، تو کیا اس اعتقاد کا ذکر قرآن میں ہے ؟ اور اگر یہ اعتقاد صحیح ہے تو کیا یہ شرک کے مقدمات میں شامل نہیں ہوتا؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جی ہاں اس اعتقاد کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے لیکن یہ ذکر اس کو باطل کرنے کے لئے کیا گیا ہے اور ایسا اعتقاد رکھنے والے کو کافر اور مشرک کا نام دیا گیا ہے -

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

يقينا ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بیشک اللہ ہی مسیح بن مریم ہے المائدة / (17)

اور فرمان ربانی ہے :

وہ لوگ بھی قطعی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ ، اللہ تین میں تیسرا ہے ، راصل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا المائدة / (73)

اللہ عز وجل کا ارشاد ہے :

اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ قول تو صرف ان کے منہ کی بات ہے پہلے منکروں کی بات یہ بھی نقل کرنے لگے ہیں اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹے جارہے ہیں ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی حالانکہ انہیں صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے التوبة / (30- 31)

تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ مسلمانوں کے درمیان منتشر اور پھیلا ہوا ہے تو اسی لئے ان کا اس پراجماع ہے کہ عیسائی کافر ہیں بلکہ وہ اس پر بھی متفق ہیں کہ جو عیسائیوں کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے -

شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے نواقض اسلام میں یہ کہا ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے:

جو کوئی مشرکوں کو کافر نہیں کہتا یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے اور ان کے مذہب کو صحیح کہتا ہے وہ بھی کافر ہے سوال نمبر - / (31807) کا مراجعہ کریں -

اور ہم اس سوال سے تعجب کرتے ہیں کہ سائل کا یہ گمان ہے کہ وہ شرک جو کہ عیسائیوں کے ہاں پایا جا تا ہے اس کا وجود مسلمانوں کے ہاں بھی ہے ، تو اس لئے ہم اسے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ کے موضوع پر کتابوں کا مطالعہ کرے اور وہ کتابیں جو کہ توحید اور اس کے احکام کو بیان کرتی ہیں اور اسی طرح شرک اور اس کی انواع کو بیان کرتی ہیں ان کا مطالعہ کریں -

اور اسی طرح اس موضوع کے متعلق کیسٹیں سننا مفید ہیں ، کیونکہ بندے پر یہ سب سے بڑا واجب ہے اور یہ تثلیث جو کہ عیسائیوں کے ہاں معروف ہے اور جس کا وہ اعتقاد رکھتے ہیں یہ شرک کے مقدمات اور ابتدائی ہیں بلکہ یہ توفیقی طور پر شرک ہے اور یہ تثلیث جو کہ عیسائیوں میں متاخرین کی اختراع ہے اس پر نہ تو عقل اور نہ ہی فطرت اور نہ ہی کتب الہیہ میں سے کوئی کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہی دلالت کرتی ہے -

ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے :

سب گمراہ لوگوں کا اپنے سرداروں اور جن کی وہ پیر وی کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے ، تو عیسائیوں میں سے کسی جاہل کے ساتھ جب کوئی موحد آدمی ان کی اس تثلیث میں اس سے مناظرہ کرتا اور اسکی مخالفت کرتا اور اسے جھٹلاتا ہے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ اس کا جواب پادریوں کے پاس ہے وہی جواب دیں گے اور جب پادری سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مطران جواب دے گا اس کا مرتبہ پادری سے زیادہ ہوتا ہے اور مطران بطریق جو کہ پادریوں کا افسر ہے اس کی طرف بھیج دیتا ہے کہ وہ جواب دے گا اور بطریق اپنے سے بڑے افسر اسقف بشپ کی طرف اور اسقف بشپ پوپ کی طرف بھیجتا ہے اور پوپ ان تین سو اٹھارہ کی طرف جو کہ قسطنطین کے دور میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس تثلیث اور شرک جو کہ عقل اور ادیان کے بھی خلاف ہے گھڑا تھا ان کی طرف بھیج دیتا -

مفتاح دار السعادة (2/148)

اور لفظی اعتبار سے نہ تو اس کا وجود قرآن اور نہ ہی حدیث میں ملتا ہے بلکہ علماء کی کلام میں آیا ہے اور وہ بھی اس وقت جب وہ استنجاء اور وضوء اور غسل اور یامیت کے غسل اور رکوع میں تسیحات اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے وغیرہ میں کلام کرتے ہیں تو پھر یہ لفظ تثلیث استعمال کرتے ہیں -

اور سب کچھ جوابی پہلی سطور میں ذکر ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس فعل کو تین مرتبہ کرنا اور اس کا عیسائیوں کی تثلیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کہ فقط یہ ان کا قول ہے اور انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں اور یہ اعتقاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ الہ اور معبود نہیں -

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ :

فرمان باری تعالیٰ ہے :

اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر حق کے علاوہ اور کچھ نہ کہو مسیح عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ (کن سے پیدا شدہ) ہیں جسے مریم (علیہا السلام) کی طرف ڈال دیا اور اس کی طرف سے روح ہیں اس لئے تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین بین اس سے باز آ جاؤ اسی میں تمہاری بہتری ہے

تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تثلیث اور اتحاد کا ذکر کیا ہے اور انہیں ان دونوں سے منع کیا اور روکا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ بیشک مسیح علیہ السلام تو صرف :

مسیح عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ (کن سے پیدا شدہ) ہیں جسے مریم (علیہا السلام) کی طرف ڈال دیا اور اس کی طرف سے روح ہیں

اور اللہ عزوجل نے فرمایا :

(تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ)

پھر اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں اس سے باز آ جاؤ اسی میں تمہاری بہتری ہے

الجواب الصحيح (2/15)

اور بعض عیسائیوں نے اپنی جہالت کی بنا پر یہ گمان کیا ہے جمع کی ضمیر جو کہ تعظیم پر دلالت کرتی ہے -

مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

بیشک ہم نے آپ کے لئے فتح دی اور یہ فرمان بیشک ہم اسے نازل کی ہے

یہ سب کچھ ان کے اس باطل اور فاسد عقیدہ تثلیث پر دلالت کرتا ہے یہ ان کا گمان ہی ہے اس میں حقیقت کوئی نہیں -

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ :

اور امت کے آئمہ سلف اور ان کے بعد والے سلف علماء کا مذہب ہے کہ :

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جبریل امین سے سنا اور جبریل نے اللہ عزوجل سے سنا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان :

ہم پڑھتے اور تلاوت کرتے ہیں اور یہ ہم قصے بیان کرتے ہیں اور یہ فرمان -

توجب ہم اسے پڑھتے ہیں

کلام عرب میں یہ صیغہ اس کے لئے بولا جاتا ہے جس کے معاون ہوں جو کہ اس کی بات مانتے ہوں اور اطاعت کرتے ہوں تو جب اس کے حکم سے معاون کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ، جس طرح کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہم نے اس ملک اور شہر کو فتح کیا اور اس لشکر اور فوج کو شکست سے دوچار کیا وغیرہ -

کیونکہ وہ یہ کام اپنے معاونین کے ساتھ مل کر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کا رب ہے اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں کہتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمل کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور اس کے کر نے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں کا خالق بھی ہے اور ان کے افعال اور ان کی قدرت کا بھی خالق ہے اور وہ ان سے غنی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کی طرح نہیں کہ جس کے معاونین اس قدرت اور حرکت سے کام کرتے ہیں جس سے وہ بادشاہ سے غنی ہوتے ہیں ، تو اللہ تعالیٰ کا اس چیز پر جسے فرشتوں نے کیا ہو یہ کہنا کہ ہم نے کیا کسی بادشاہ کے قول سے زیا دہ حق دار اور اولیٰ ہے -

اور یہ لفظ متشابہات میں سے ہے جو کہ نہ کر کیا گیا ہے کہ عیسائیوں نے جب قرآن میں یہ لفظ : **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ** موجود پایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے تثلیث کی حجت سمجھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مزمت کی کہ انہوں نے قرآن میں محکم کو چھوڑ کر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے متشابہ کو جو کہ اس ایک کا احتمال رکھتا ہے جس کے معاون اور مددگار اور اس کے غلام اور مخلوق ہوا سے پکڑ لیا اور انہوں نے اس متشابہ سے فتنہ اور فساد چاہا ہے جو کہ دلوں میں اس بات کا وہم ڈالے کہ الہ کئی ایک ہیں اور اس کی تاویل جاننے کی کو شش کی ہے اور اس کی تاویل تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں - اور علم میں رسوخ رکھنے والے بھی -

مجموع الفتاوی (233/5-234)



اسكى مزيد تفصيلات كے لئے سوال نمبر (606) كوديكھيں -

والله اعلم .